

# Jos

## Chapter 22

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1 אֶזְרָא יִקְרָא יְהוֹשֻׁעַ לְרֹאשֵׁי רֹבְעֵי-קָדְשׁ וְלַנְּזִירֵי אֲדָמָה וְלַחֲצִי מִטָּה מְנַשֶּׁה:

تَبْ بَلَايَا يَهُوشَعُ نَعِ رُوبَعِيَّوْنَ كُو اور-جاديوں-كو اور-آدھے-كو اَلْحَاصِي مَطَا مَنَسَا:

[H7121](#) [H3091](#) [H7206](#) [H1425](#) [H2677](#) [H4294](#) [H4519](#)

کریلا پاس اپنے کو مردوں کے قبیلے آدھے کے منسی اور جد روبن، نے یسوع پھر

2 וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם אַתֶּם שְׂמֹרְתֶם אֶת-כָּל-אֲשֶׁר צִוָּה אֲתָכֶם מֹשֶׁה עַבְדִּי

اور-کہا اَلَيْهِمْ اَنْ-سے اَتُمْ تَمْ-نَعِ شَمْرَتُمْ مَنَا اَت-كو- مانا اَشْرَ جُو حَكَم-دِيَا اَتَاكُم مَوسَى-نَعِ خَادَم-نَعِ

[H0559](#) [H0413](#) [H8104](#) [H0853](#) [H3605](#) [H6680](#) [H0853](#) [H4872](#) [H5650](#)

יְהוָה יְהוּוָה כֵּי וַתִּשְׁמְעוּ בְקוֹלִי לְכֹל-אֲשֶׁר-צִוִּיתִי אֲתָכֶם:

یہوواہ-کے اور-سنی آواز-میری سب-کے-لیے جو- حکم-دیا-میں-نَعِ تمہیں اَتَاكُم

[H3068](#) [H8085](#) [H3605](#) [H6680](#) [H0853](#)

بے۔مانی بات ہر میری نے آپ اور کیا۔ پورا نے آپ سے تھا دیا کو آپ نے موسیٰ خادم کے رب حکم بھی جو کہا،

3 لֹא-עֲזַבְתֶּם אֶת-בְּהֵמֵי-אֲחֵיכֶם זֶה-יָמִים רַבִּים עַד הַיּוֹם הַזֶּה וְשָׂמַרְתֶּם אֶת-

نہ- چھوڑا کو- بھائیوں-اپنے اَحِيكُمْ زَه-يَمِیْم دِنُون بَهت تَك دن اَتَاكُم اور-مانا کو-

[H3808](#) [H0853](#) [H0251](#) [H2088](#) [H3117](#) [H5704](#) [H3117](#) [H2088](#) [H0251](#) [H0853](#) [H8104](#) [H0853](#)

מִשְׁמֹרֶת נִגְבָּנֵי חֲכָמִים יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם:

نگہبانی حکم-کے یہوواہ خدا-تمہارے-کے اَلْاِيكُمْ

[H4931](#) [H4687](#) [H3068](#) [H0430](#)

تھی۔مرضی کی رب جو بے کیا کچھ وہی بالکل بلکہ کیا نہیں ترک کو بھائیوں اپنے تک آج سے عرصے کافی نے آپ

4 וַעֲתָה אֲרָם-דִּיבָא יְהוּוָה אֱלֹהֵיכֶם לְאֶחֱיֶיכֶם כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר לָהֶם וַעֲתָה פָּנּוּ וּלְכוּ

اور-اب آرام-دیا یہوواہ-نَعِ خدا-تمہارے-نَعِ بھائیوں-تمہارے-کو جیسا فرمایا انہیں اور-اب اور-مانا اور-جاؤ

[H6258](#) [H5117](#) [H3068](#) [H0430](#) [H0251](#) [H1696](#) [H6258](#) [H6437](#) [H3212](#)

לָכֶם לָאֶחֱיֶיכֶם אֶל-סְרַזְמִינִי אֶחָתְכֶם וְאֲשֶׁר נָתַן לָכֶם מֹשֶׁה עַבְדִּי יְהוָה

اپنے-لیے خیموں-اپنے-میں میں- سرزمین ملکیت-تمہاری جو دیا تمہیں موسیٰ-نَعِ خادم-نَعِ یہوواہ-کے

[H3068](#) [H0168](#) [H0413](#) [H0776](#) [H0272](#) [H5414](#) [H4872](#) [H5650](#) [H3068](#)

בְּעֶבֶר הַיַּרְדֵּן:

پار یردن-کے

[H5676](#) [H3383](#)

گھر اپنے آپ کہ بے گیا آ وقت اب لئے اس ہیں۔ رہے رہ میں اس ساتھ کے سلامتی وہ اور ہے، دیا دے ملک موعودہ کو بھائیوں کے آپ نے خدا کے آپ رب اب بے۔دیا دے پار کے یردن دریائے کو آپ نے موسیٰ خادم کے رب جو میں ملک اس جائیں، چلے واپس



9	וישב	ויגלו	בני-ראובן	ובני-גاد	ונחצי	שבת	המנשה	מאת	בני	ישראל
	اور-لوئے	اور-گئے	بیٹے-روبن	اور-بیٹے-جاد	اور-آدھا	قبیلہ	منسی-کا	سے	بیٹوں	اسرائیل-کے
	<a href="#">H7725</a>	<a href="#">H3212</a>	<a href="#">H7205</a>	<a href="#">H1410</a>	<a href="#">H2677</a>	<a href="#">H7626</a>	<a href="#">H4519</a>	<a href="#">H0854</a>		<a href="#">H3478</a>

	משלה	אשר	בארץ-کنعان	כنعן	ללכת	אל-	ארץ	הגלעד	אל-	ארץ	אחזתם
	شیلوہ-سے	جو	سرزمین-میں-کنعان	جانے-کے-لیے	میں-	سرزمین	جلعاد-کی	میں-	سرزمین	ملکیت-اپنی	
	<a href="#">H7887</a>		<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H3212</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H1568</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H0272</a>	

	אשר	נאחזו-	כה	על-	פי	יהנה	ביר-	מנשה:
	جو	ملکیت-پائی-	اس-میں	بموجب-	حکم	یہوواہ-کے	ذریعہ-سے-	موسیٰ
		<a href="#">H0270</a>			<a href="#">H6310</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H3027</a>	<a href="#">H4872</a>

میں مشرق کے یردن دریائے جو بوئے روانہ طرف کی جلعاد ملک کر چھوڑ میں سیلا کو اسرائیلیوں باقی مرد کے قبیلے آدھے کے منسی اور جد روبن، پھر تھا۔ دیا معرفت کی موسیٰ نے اُس جو تھے بوئے آباد مطابق کے حکم اُس کے رب قبیلے کے اُن میں جن تھے علاقے اپنے کے اُن وہاں ہے۔

10	ויבאו	אל-	גלילות	הירדן	אשר	בארץ	כنعן	ויבנו	בני-ראובן
	اور-پہنچے	تک-	جلیلوت	یردن-کے	جو	سرزمین-میں	کنعان	اور-بنایا	روبن
	<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H1552</a>	<a href="#">H3383</a>		<a href="#">H0776</a>		<a href="#">H1129</a>	<a href="#">H7205</a>

	ובני-	גד	ונחצי	שבת	המנשה	שם	מזבח	על-	הירדן	מזבח	גדול
	اور-بیٹوں-نے-	جاد	اور-آدھے-نے	قبیلہ	منسی-کے	وہاں	مذبح	پر-	یردن	مذبح	بڑا
		<a href="#">H1410</a>	<a href="#">H2677</a>	<a href="#">H7626</a>	<a href="#">H4519</a>	<a href="#">H8033</a>	<a href="#">H4196</a>		<a href="#">H3383</a>	<a href="#">H4196</a>	

لمראה:  
دیکھئے-میں  
[H4758](#)

قربان شاندار اور بڑی ایک نے انہوں ہی میں کنعان ملک یعنی وہاں تھا۔ گلیلوت نام کا جس پہنچے جگہ ایک میں مغرب کے یردن دریائے چلتے چلتے مرد یہ بنائی۔ گاہ

11	וישמעו	בני-اسرائیل	לאמר	הנה	בנו	בני-ראובן	ובני-גاد
	اور-سنا	بیٹوں-نے-اسرائیل	کہتے-بوئے	دیکھو	بنایا	بیٹوں-نے-روبن	اور-بیٹوں-نے-جاد
	<a href="#">H8085</a>	<a href="#">H3478</a>	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H2009</a>	<a href="#">H1129</a>	<a href="#">H7205</a>	<a href="#">H1410</a>

	ונחצי	שבת	המנשה	את-	המזבח	אל-	مول	ארץ	כنعן	אל-	גלילות	הירדן
	اور-آدھے-نے	قبیلہ	منسی-کے	کو-	مذبح	تک-	سامنے	سرزمین	کنعان-کے	تک-	جلیلوت	یردن-کے
	<a href="#">H2677</a>	<a href="#">H7626</a>	<a href="#">H4519</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H4196</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H4136</a>	<a href="#">H0776</a>		<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H1552</a>	<a href="#">H3383</a>

אל-עבר  
تک-بار  
بیٹوں-کے-اسرائیل  
[H0413](#) [H5676](#) [H3478](#)

کے یردن دریائے گاہ قربان یہ ہے۔ لی بنا گاہ قربان میں گلیلوت پر سرحد کی کنعان نے قبیلے آدھے کے منسی اور جد روبن، گئی، دی خبر کو اسرائیلیوں ہے! میں علاقے ہی ہمارے یعنی میں مغرب

12	וישמעו	בני-اسرائیل	ויקהלו	כל-	עדת	בני-اسرائیل	שלה	לעלות
	اور-سنا	بیٹوں-نے-اسرائیل	اور-جمع-ہوئی	ساری-	جماعت	بیٹوں-کے-اسرائیل	شیلوہ-میں	چڑھنے-کے-لیے
	<a href="#">H8085</a>	<a href="#">H3478</a>	<a href="#">H6950</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H5712</a>	<a href="#">H3478</a>	<a href="#">H7887</a>	<a href="#">H5927</a>

עליהם  
ان-پر  
لچבא:  
جنگ-کے-لیے-  
פ-

ہوئی۔ جمع میں سیلا لے کے لڑنے سے قبیلوں مشرقی جماعت پوری کی اسرائیل تب

13	וַיִּשְׁלְחוּ	בְנֵי-יִשְׂרָאֵל	אֶל-	בְנֵי-רְאוּבֵן	וְאֶל-	בְנֵי-גָד	וְאֶל-	13
	اور-بھیجا	بیٹوں-نے-	کے-پاس-	روبن	اور-کے-پاس-	بیٹوں-کے-	جاد	اور-کے-پاس-
	<a href="#">H7971</a>	<a href="#">H3478</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H7205</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H1410</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H0413</a>

חֲצִי	נֶשֶׁבֶט-	מְנַשֶּׁה	אֶל-	אֶרֶץ	הַגִּלְעָד	אֶת-	פִּינְחָס	בֶּן-	אֶלְעָזָר	הַכֹּהֵן:
آدھے	قبیلے-کے-	منسی	میں-	سرزمین	جلعاد-کی	کو-	فینحاس	بن-	اليعزر	کابن-کے
<a href="#">H2677</a>	<a href="#">H7626</a>	<a href="#">H4519</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H1568</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H6372</a>	<a href="#">H0499</a>	<a href="#">H3548</a>	

تھے۔ آباد قبیلہ آدھا کا منسی اور جد روبن، جہاں بھیجا کو جلعاد ملک کو فینحاس بیٹے کے امام عزرا الی نے انہوں پہلے لیکن

14	וַעֲשָׂרָה	נְשָׂאִים	עֲמֹו	נְשִׂיא	אֶחָד	נְשִׂיא	אֶחָד	לְבֵית	אָב	לְכָל	מִטּוֹת
	اور-دس	رئیس	اس-کے-ساتھ	رئیس	ایک	رئیس	ایک	گھرانے-کے-لیے	باپ-کے	سب-کے-لیے	قبیلوں
	<a href="#">H6235</a>				<a href="#">H0259</a>	<a href="#">H0259</a>	<a href="#">H0259</a>	<a href="#">H0001</a>	<a href="#">H0001</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H4294</a>

יִשְׂרָאֵל	וְאִישׁ	רָאשׁ	בֵּית-	אֲבוֹתָם	הַמָּוָה	לְאֶלְפֵי	יִשְׂרָאֵל:
اسرائیل-کے	اور-آدمی	سردار	گھرانے-کے-	باپ-دادوں-ان-کے	وہ	ہزاروں-کے-لیے	اسرائیل-کے
<a href="#">H3478</a>	<a href="#">H0376</a>			<a href="#">H0001</a>	<a href="#">H1992</a>	<a href="#">H0505</a>	<a href="#">H3478</a>

تھا۔ سربراہ کا کنیے اور گھرانے آبائی اپنے ایک ہر تھا۔ نمائندہ ایک کا قبیلے مغربی بر یعنی آدمی 10 ساتھ کے اُس

15	וַיָּבֵאוּ	אֶל-	בְנֵי-	רְאוּבֵן	וְאֶל-	בְנֵי-גָד	וְאֶל-	חֲצִי	נֶשֶׁבֶט-
	اور-آئے	کے-پاس-	بیٹوں-کے-	روبن	اور-کے-پاس-	بیٹوں-کے-	جاد	آدھے	قبیلے-کے-
	<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H7205</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H1410</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H2677</a>	<a href="#">H7626</a>

מְנַשֶּׁה	אֶל-	אֶרֶץ	הַגִּלְעָד	וַיַּדְבְּרוּ	אֵתם	לְאֹמְרֵי:
منسی	میں-	سرزمین	جلعاد-کی	اور-بولے	ان-سے	کہتے-ہوئے
<a href="#">H4519</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H1568</a>	<a href="#">H1696</a>	<a href="#">H0854</a>	<a href="#">H0559</a>

کی۔ بات سے قبیلوں مشرقی نے انہوں کر پہنچ میں جلعاد

16	כֹּה	אָמְרוּ	וְכָל	עֲדַת	יְהוּדָה	מָה-	הַמַּעֲלָ	הַזֶּה	אֲשֶׁר	מַעֲלָתָם	בְּאֵלֹהֵי
	یوں	کہتی-ہے	ساری	جماعت	یہوواہ-کی	کیا-	خیانت	یہ	جو	خیانت-کی	خدا-سے
	<a href="#">H3541</a>	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H5712</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H4100</a>	<a href="#">H4604</a>	<a href="#">H2088</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H4603</a>	<a href="#">H0430</a>

יִשְׂרָאֵל	לְשׁוֹב	הַיּוֹם	מֵאֲחֵרֵי	יְהוּדָה	בְּבִנוֹתָם	לְכֹם	מִזְבֵּחַ	לְמַרְדְּכָם
اسرائیل-کے	پہرنے-کے-لیے	آج	پیچھے-سے	یہوواہ	بنانے-سے-تمہارے	اپنے-لیے	مذبح	بغاوت-کرنے-کے-لیے-تمہارے
<a href="#">H3478</a>	<a href="#">H7725</a>	<a href="#">H3117</a>		<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H1129</a>	<a href="#">H4196</a>	<a href="#">H4196</a>	<a href="#">H4775</a>

הַיּוֹם	בֵּיהֶנָּה:
آج	یہوواہ-کے-خلاف
<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H3068</a>

بنائی کیوں گاہ قربان یہ کر پھیر منہ اپنا سے رب نے آپ ہیں؟ گئے ہو کیوں بے وفا سے خدا کے اسرائیل آپ کہ بے پوجھتی سے آپ جماعت پوری کی [رب بے-کی سرکشی سے رب نے آپ سے اس بے؟

17	הַמַּעֲט-	לָדוֹ	אֶת-	עֲזֹן	פְּעוֹר	אֲשֶׁר	לְאֹ-	הַטְּהַרְנוּ	מִזְנוֹ	עַד	הַיּוֹם	הַזֶּה
	کیا-کم-ہے-	ہمارے-لیے	کو-	گناہ	فعور-کا	جس-سے	نہ-	پاک-ہوئے	اس-سے	تک	دن	اس
	<a href="#">H4592</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H5771</a>	<a href="#">H6465</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H2891</a>	<a href="#">H5704</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H2088</a>	<a href="#">H2088</a>

וַיְהִי	הַנֶּגֶף	וּבָ	בְּעַד	יְהוּדָה:
اور-تھی	وبا	جماعت-میں	یہوواہ-کی	
<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H5063</a>	<a href="#">H5712</a>	<a href="#">H3068</a>	

وقت اُس گو ہوئے نہیں صاف پاک سے گناہ اُس پر طور پورے تک آج تو ہم ہوا؟ سرزد گناہ کا کرنے پوجا کی بُت کے فغور سے ہم کہ تھا نہیں کافی یہ کیا تھی۔ گئی مل سزا میں صورت کی وبا کو جماعت کی رب



23	לְבָנוֹת	לָנוּ	מִזְבֵּחַ	לָשׁוֹב	מֵאֲחֵרֵי	יְהוָה	וְאִם-	לְהַעֲלוֹת	עָלָיו	עוֹלָה
	بنانے کے لیے	اپنے لیے	مذبح	پہرنے کے لیے	پیچھے سے	یہوواہ	اور-اگر-	چڑھانے کے لیے	اس پر	سوختنی
	<a href="#">H1129</a>	<a href="#">H4196</a>	<a href="#">H7725</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H5927</a>					

وּמִנְחָה	וְאִם-	לְעֵשׂוֹת	עָלָיו	זְבָחֵי	שְׁלָמִים	יְהוָה	הוּא	יִבְקֶשׁ:
اور-نذر	اور-اگر-	کرنے کے لیے	اس پر	قربانیاں	سلامتی کی	یہوواہ	وہ	بوجھے
<a href="#">H4503</a>				<a href="#">H2077</a>	<a href="#">H8002</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H1245</a>

کی غلہ نہ قربانیاں، والی ہونے بھسم نہ چاہتے، نہیں چڑھانا قربانی بھی کوئی پر اس ہم جائیں۔ ہو ڈور سے رب کہ بنائی نہیں لئے اس گاہ قربان یہ نہ ہم کرے۔ عدالت ہماری خود رب تو بولیں جھوٹ ہم اگر قربانیاں۔ کی سلامتی ہی نہ اور نذریں

24	وְאִם-	לֹא	מִדְּאָנָה	מִדְּבָר	עֲשִׂינוּ	אֶת-	זֹאת	לְאֹמֵר	מִחֵר	יֹאמְרוּ	בְּנִיכֶם
	اور-اگر-	نہیں	فکر سے	بات سے	کیا ہم نے	کو-	یہ	کہتے ہوئے	کل	کہیں گے	بیٹے تمہارے
	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H1674</a>	<a href="#">H1697</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H2063</a>	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H4279</a>	<a href="#">H0559</a>			

לְבָנֵינוּ	לְאֹמֵר	מָה-	לָכֵם	וְלִיהוָה	אֱלֹהֵי	יִשְׂרָאֵל:
بیٹوں ہمارے سے	کہتے ہوئے	کیا-	تمہارا	اور-یہوواہ سے	خدا سے	اسرائیل کے
<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H4100</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H3478</a>		

خدا کے اسرائیل رب کا آپ کہے، سے اولاد ہماری اولاد کی آپ دن کسی میں مستقبل کہ ہیں ڈرتے ہم کہ کی تعمیر لئے اس گاہ قربان یہ نہ ہم میں حقیقت ہے؟ واسطہ کیا ساتھ کے

25	וּנְבִיל	נֶתֶן-	יְהוָה	בִּינֵינוּ	וּבְנֵיכֶם	בְּנֵי-	רְאוּבֵן	וּבְנֵי-	גָד	אֶת-
	اور-سرحد	مقرر کی ہے	یہوواہ نے	ہمارے درمیان	اور-تمہارے درمیان	بیٹوں	روبن	اور-بیٹوں	جاد	کو-
	<a href="#">H1366</a>	<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0996</a>	<a href="#">H0996</a>	<a href="#">H7205</a>	<a href="#">H1410</a>	<a href="#">H0853</a>		

הִרְדִּין	אֵין-	לָכֵם	חֶלֶק	בִּיהוָה	וְהִשְׁבִּיתוּ	אֶת-	בְּנֵינוּ	לְבָלְתָי
یردن	نہیں ہے	تمہارا	حصہ	یہوواہ میں	اور-روک دیں گے	کو-	بیٹوں ہمارے	نہ کرنے سے
<a href="#">H3383</a>	<a href="#">H0369</a>	<a href="#">H3068</a>			<a href="#">H0853</a>		<a href="#">H1115</a>	

יְרָא	אֶת-	יְהוָה:
ڈرے	سے-	یہوواہ
<a href="#">H3372</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3068</a>

کی آپ سے کرنے ایسا نہیں! حق کوئی کا کرنے عبادت کی رب کو آپ چنانچہ ہے۔ کی مقرر سرحد کی یردن دریائے درمیان کے آپ اور ہمارے نے رب آخر گی۔ روکے سے کرنے خدمت کی رب کو اولاد ہماری اولاد

26	וְנֹאמֵר	נַעֲשֶׂה-	נָא	לָנוּ	לְבָנוֹת	אֶת-	הַמִּזְבֵּחַ	לֹא	לְעוֹלָה	וְלֹא
	اور-کہا ہم نے	بنائیں-	اب	اپنے لیے	بنانے کے لیے	کو-	مذبح	نہیں	سوختنی کے لیے	اور-نہیں
	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H4994</a>	<a href="#">H1129</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H4196</a>	<a href="#">H3808</a>				

לְזָבַח:
قربانی کے لیے
<a href="#">H2077</a>

نہیں لئے کے چڑھانے قربانی اور کوئی کی ذبح یا قربانیاں والی ہونے بھسم بنائی، گاہ قربان یہ نہ ہم کہ ہے وجہ یہی

27	כִּי	עֵד	הוּא	בִּינֵינוּ	וּבְנֵיכֶם	וּבְנֵי-	דְרוֹתֵינוּ	אֲחֵרֵינוּ	לְעֵבֵד
	بلکہ	گواہ	وہ	ہمارے درمیان	اور-تمہارے درمیان	اور-درمیان میں	نسلوں ہماری	ہمارے بعد	کرنے کے لیے
	<a href="#">H5707</a>	<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H0996</a>	<a href="#">H0996</a>	<a href="#">H1755</a>	<a href="#">H5647</a>			

אֶת-	עֲבֹדָת	יְהוָה	לְפָנָיו	בְּעֹלֹתֵינוּ	וּבְזָבָחֵינוּ	וּבְשָׁלְמֵינוּ
کو-	خدمت	یہوواہ کی	اس کے سامنے	سوختنیوں ہماری سے	اور-قربانیوں ہماری سے	اور-سلامتیوں ہماری سے
<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H5656</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H2077</a>	<a href="#">H8002</a>	

וְלֹא-	יֹאמְרוּ	בְּנִיכֶם	מִחֵר	לְבָנֵינוּ	אֵין-	לָכֵם	חֶלֶק	בִּיהוָה:
اور-نہ	کہیں گے	بیٹے تمہارے	کل	بیٹوں ہمارے سے	نہیں ہے	تمہارا	حصہ	یہوواہ میں
<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H4279</a>	<a href="#">H0369</a>			<a href="#">H3068</a>		

سلامتی اور قربانیاں کی ذبح قربانیاں، والی ہونے بھسم میں خیمے کے رب بھی ہمیں کہ لئے کے دلانے یاد کی بات اس کو نسلوں والی آنے اور کو آپ بلکہ کو آپ کی، سکے کہہ نہیں سے اولاد ہماری بھی کبھی اولاد کی آپ اب گی۔ رہے گواہ درمیان کے آپ اور ہمارے گاہ قربان یہ ہے۔ حق کا چڑھانے قربانیاں کی نہیں۔ حاصل حقوق کے جماعت کی رب

وَأَمْرًا									
اور-کہا-ہم نے	اور-کہیں-گے-ہم	کل	نسلوں-ہماری	اور-کو-	ہم سے	کہیں-گے	جب-	اور-ہو-گا	اور-کہا-ہم نے
<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H4279</a>	<a href="#">H1755</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H0559</a>		<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H0559</a>
وَأَمْرًا									
کو-	شکل	مذبح	یہوواہ-کے	جو-	بنایا	باپ-دادوں-ہمارے-نے	نہیں	سوختنی-کے-لیے	اور-نہیں
<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H8403</a>	<a href="#">H4196</a>	<a href="#">H3068</a>			<a href="#">H0001</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H3808</a>
وَأَمْرًا									
قربانی-کے-لیے	بلکہ-	گواہ	وہ	ہمارے-درمیان	اور-تمہارے-درمیان	وَأَمْرًا	وَأَمْرًا	وَأَمْرًا	وَأَمْرًا
<a href="#">H2077</a>		<a href="#">H5707</a>	<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H0996</a>	<a href="#">H0996</a>				

بنایا اسے نے دادا باپ ہمارے ہے۔ نقل بوہو کی گاہ قربان کی رب جو دیکھیں گاہ قربان [ ] یہ گی، سکے کہہ اولاد ہماری تو کرے بات یہ وقت کسی وہ اگر اور رب کر مل ہمیں کہ لے کے دینے گواہی ہمیں اور کو آپ بلکہ چڑھائیں قربانیاں کی ذبح اور قربانیاں والی ہونے بھسم پر اس ہم کہ نہیں لے اس لیکن تھا، ہے۔ [ ] حق کا کرنے عبادت کی

وَأَمْرًا									
دور-ہو	ہم سے	اس سے	بغاوت-کرنے-سے	یہوواہ-کے-خلاف	اور-پہرنے-سے	آج	پیچھے-سے	یہوواہ	وَأَمْرًا
<a href="#">H2486</a>			<a href="#">H4775</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H7725</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H3068</a>
وَأَمْرًا									
بنانے-کے-لیے	مذبح	سوختنی-کے-لیے	نذر-کے-لیے	اور-قربانی-کے-لیے	علاوہ-	مذبح-کے	یہوواہ	خدا-ہمارے-کے	وَأَمْرًا
<a href="#">H1129</a>	<a href="#">H4196</a>		<a href="#">H4503</a>	<a href="#">H2077</a>	<a href="#">H0905</a>	<a href="#">H4196</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H0430</a>
وَأَمْرًا									
جو	سامنے-کے	مسکن-اس-کے	—	وَأَمْرًا	وَأَمْرًا	وَأَمْرًا	وَأَمْرًا	وَأَمْرًا	وَأَمْرًا
	<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H4908</a>							

کی غلہ قربانیاں، والی ہونے بھسم گاہ قربان یہ نے ہم نہیں، لیں۔ پھیر سے اُس منہ اپنا کے کر سرکشی سے رب ہم کہ پہنچیں نہ تک یہاں بھی کبھی حالات کرنا پیش قربانیاں اپنی ہی پر گاہ قربان کی سامنے کے گاہ سکونت کی خدا اپنے رب صرف ہم بنائی۔ نہیں لے کے چڑھانے قربانیاں کی ذبح اور نذیر ہیں۔ [ ] چاہتے

وَأَمْرًا	وَأَمْرًا	وَأَمْرًا	وَأَمْرًا	وَأَمْرًا	وَأَمْرًا	وَأَمْرًا	وَأَمْرًا	وَأَمْرًا	وَأَمْرًا
اور-سنا	فینحاس-نے	کابن-نے	اور-رئیسوں-نے	جماعت-کے	اور-سرداروں-نے	ہزاروں-کے	اسرائیل-کے	جو	وَأَمْرًا
<a href="#">H8085</a>	<a href="#">H6372</a>	<a href="#">H3548</a>		<a href="#">H5712</a>		<a href="#">H0505</a>	<a href="#">H3478</a>		<a href="#">H3478</a>
وَأَمْرًا	وَأَمْرًا	وَأَمْرًا	وَأَمْرًا	وَأَمْرًا	وَأَمْرًا	وَأَمْرًا	وَأَمْرًا	وَأَمْرًا	وَأَمْرًا
اس-کے-ساتھ	کو-	باتیں	جو	بولے	بیٹے-	روبن	اور-بیٹے-	جاد	اور-بیٹے
<a href="#">H0854</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H1697</a>		<a href="#">H1696</a>	<a href="#">H7205</a>		<a href="#">H1410</a>	<a href="#">H4519</a>	<a href="#">H4519</a>
وَأَمْرًا	وَأَمْرًا	وَأَمْرًا	وَأَمْرًا	وَأَمْرًا	وَأَمْرًا	وَأَمْرًا	وَأَمْرًا	وَأَمْرًا	وَأَمْرًا
اور-اچھی-لگی	نظروں-ان-کی-میں	وَأَمْرًا	وَأَمْرًا	وَأَمْرًا	وَأَمْرًا	وَأَمْرًا	وَأَمْرًا	وَأَمْرًا	وَأَمْرًا
<a href="#">H3190</a>									

ہوئے۔ مطمئن وہ تو سنیں باتیں یہ کی قبیلے آدھے کے منسی اور جد روبن، میں جلعاد نے سربراہوں کے کنبوں کے جماعت اسرائیلی اور فینحاس جب

وَأَمْرًا									
اور-کہا	فینحاس-نے	بن-	الیعزر	کابن-نے	سے-	بیٹوں-کے-	روبن	اور-سے-	اور-بیٹوں-کے-
<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H6372</a>		<a href="#">H0499</a>	<a href="#">H3548</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H7205</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H1410</a>
وَأَمْرًا									
اور-سے-	بیٹوں	منسی	آج	جان-لیا-ہم-نے	کہ-	ہمارے-درمیان	یہوواہ	جو	نہیں-
<a href="#">H0413</a>		<a href="#">H4519</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H3045</a>		<a href="#">H8432</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H4603</a>
وَأَمْرًا									
یہوواہ-کے-خلاف	خیانت	یہ	تب	بچایا-تم-نے	کو-	بیٹوں	اسرائیل-کے	باتھ-سے	یہوواہ-کے
<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H4604</a>	<a href="#">H2088</a>		<a href="#">H5337</a>	<a href="#">H0853</a>		<a href="#">H3478</a>	<a href="#">H3027</a>	<a href="#">H3068</a>

کی رب کو اسرائیلیوں نے آپ ہیں۔ ہوئے نہیں بے وفا سے اُس آپ کیونکہ گا، رہے درمیان ہمارے بھی آئندہ رب کہ ہیں جانتے ہم [ ] اب کہا، سے اُن نے فینحاس ہے۔ [ ] لیا بچا سے سزا

32	וַיֵּשֶׁב	פִּינְחָס	בֶּן-	אֶלְעָזָר	וְהַכֹּהֵן	וְהַנְּשִׂאִים	מֵאֵת	בְּנֵי-	רְאוּבֵן	וּמֵאֵת	בְּנֵי-
	اور-لوٹا	فینحاس	بن-	اليعزر	کاہن	اور-رئیس	سے	بیٹوں-کے-	روبن	اور-سے	بیٹوں-کے-
	<a href="#">H7725</a>	<a href="#">H6372</a>		<a href="#">H0499</a>	<a href="#">H3548</a>	<a href="#">H0854</a>			<a href="#">H7205</a>	<a href="#">H0853</a>	
	וְגַד	מֵאֲרִץ	הַגְּלִיעָד	אֶל-	אֲרִץ	כְּנָעַן	אֶל-	בְּנֵי	יִשְׂרָאֵל	וַיָּשְׁבוּ	אֶתֶּם
	جاد	سرزمین-سے	جلعاد-کی	میں-	سرزمین	کنعان	کے-پاس-	بیٹوں	اسرائیل-کے	اور-بتایا	انہیں
	<a href="#">H1410</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H1568</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H0413</a>		<a href="#">H3478</a>	<a href="#">H7725</a>	<a href="#">H0853</a>

דָּבָר:

בַּת

[H1697](#)

نے انہوں وہاں آئے۔ لوٹ میں کنعان ملک کر چھوڑ میں جلعاد ملک کو قبیلے آدھے کے منسی اور جد روبن، سردار اسرائیلی باقی اور فینحاس بعد کے اس تھا۔ ہوا جو بتایا کچھ سب

33	וַיֵּיטֵב	הַדָּבָר	בְּעֵינָיו	בְּנֵי	יִשְׂרָאֵל	וַיִּבְרְכוּ	אֱלֹהִים	בְּנֵי	יִשְׂרָאֵל	וְלֹא
	اور-اچھی-لگی	بات	نظروں-میں	بیٹوں	اسرائیل-کے	اور-برکت-دی	خدا-کی	بیٹوں-نے	اسرائیل-کے	اور-نہیں
	<a href="#">H3190</a>	<a href="#">H1697</a>			<a href="#">H3478</a>	<a href="#">H1288</a>	<a href="#">H0430</a>		<a href="#">H3478</a>	<a href="#">H3808</a>

اَمْرُو	لَعَلَّوֹת	עֲלִיהֶם	לְצַבָּא	לְשַׁחַת	אֶת-	הָאָרֶץ	אֲשֶׁר	בְּנֵי-	רְאוּבֵן
کہا	چڑھنے-کے-لیے	ان-پر	جنگ-کے-لیے	تباہ-کرنے-کے-لیے	کو-	سرزمین	جس-میں	بیٹے-	روبن
<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H5927</a>			<a href="#">H7843</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0776</a>			<a href="#">H7205</a>

וּבְנֵי-  
اور-بیٹے-  
גַּד  
رہتے-تھے  
اس-میں  
[H3427](#) [H1410](#)

آئے۔ باز سے ارادے کے کرنے تباہ علاقہ کا ان اور کرنے جنگ سے جد اور روبن کے کر تمجید کی اللہ وہ اور آئی، پسند بات یہ کو اسرائیلیوں باقی

34	וַיִּקְרָאוּ	בְּנֵי-	רְאוּבֵן	וּבְנֵי-	גַּד	לְמִזְבֵּחַ	כִּי	עַד	הוּא	כִּינְתוּיָנוּ
	اور-رکھا-نام	بیٹوں-نے-	روبن	اور-بیٹوں-نے-	جاد	مذبح-کا	کیونکہ	گواہ	وہ	ہمارے-درمیان
	<a href="#">H7121</a>		<a href="#">H7205</a>		<a href="#">H1410</a>	<a href="#">H4196</a>		<a href="#">H5707</a>	<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H0996</a>

כִּי  
کہ  
یہوواہ  
خدا-ہے  
—  
[H0430](#) [H3068](#)

ہمارا رب کہ ہے گواہ درمیان کے قبیلوں دوسرے اور ہمارے گاہ قربان [ ] یہ کہا، نے انہوں کیونکہ رکھا، گواہ نام کا گاہ قربان نئی نے قبیلوں کے جد اور روبن ہے۔ [ ] خدا بھی